

جمعہ ، 15 اکتوبر ، 2021

عزیز والدین/سرپرست اور ہالٹن میں گریڈ 7-12 کے طلباء ،

ہالٹن ریجن پبلک ہیلتھ خاندانوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ ہالٹن کے اسکول میں موجود حفاظتی ٹیکے لگانے والے کمیونٹی کلینک میں ایک محدود وقت کے لیے پیش کیے جانے والے اپائنٹمنٹ کی بکنگ کروا کر اسکول میں اہم ویکسین حاصل کریں۔ کلینکوں کو شام اور ہفتے کے آخر میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اسکول کے دن میں خلل نہ پڑے۔

فی الوقت ، 2009-2004 کے دوران پیدا ہونے والے 25000 سے زائد ہالٹن کے طلباء ابھی تک ہیپاٹائٹس بی (Hepatitis B) ، ہیومن پاپیلوما وائرس (ایچ پی وی) (Human Papillomavirus (HPV)) اور میننگوکوکل اے سی وائی ڈبلیو-135 (Meningococcal ACYW-135) ویکسینز کی خوراک سے محروم ہیں ، جو عام طور پر گریڈ 7 میں اسکول میں دی جاتی ہیں لیکن یہ وبائی مرض کی وجہ سے متاثر ہوئیں۔ یہ حفاظتی ٹیکے افراد اور ہماری کمیونٹی کو پھیلنے والی بیماری سے بچانے کا ایک اہم حصہ ہیں ، اور میننگوکوکل ACYW-135 ویکسین اسکول طالب علموں کے حفاظتی ٹیکے کے قانون (the Immunization of School Pupils Act) کے مطابق طلباء کے لیے ضروری ہے۔

یہ کلینکس اکتوبر کے آخر میں ختم ہونا شروع ہوجائیں گے ، لہذا مایوسی سے بچنے کے لیے خاندانوں کو جلد از جلد اپائنٹمنٹ کی بکنگ کروانا چاہیے۔

### اپا ئنٹمنٹ بک کروائیں۔

- گریڈ 7 اسکول کے حفاظتی ٹیکوں کے ویب پیج پر جائیں ؛
- ہالٹن کی اسکول بیسڈ حفاظتی ٹیکہ جات شیٹ پڑھیں (اردو ، چینی ، فرانسیسی ، ہسپانوی ، پنجابی ، عربی میں بھی دستیاب ہے)؛
- ہالٹن والدین کی بلاگ پوسٹ اسکول بیسڈ ویکسینیشن اور آپ کا بچہ پڑھیں یا 311 پر کال کریں۔

طلباء کے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے تمام ویکسینز (سوائے COVID-19 ویکسین کے) ، پبلک ہیلتھ کو رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی اپنے بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ سے یہ ویکسین وصول کرنے کا اہتمام کر رکھا ہے تو اپنے ان لائن حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر کے یا 311 پر کال کر کے پبلک ہیلتھ کو آگاہ کریں۔

حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے [halton.ca/immunize](https://halton.ca/immunize) پر جائیں یا 311 پر کال کریں۔

مخلص،

(Dr. Hamidah Meghani)، ڈاکٹر حمیدہ میگھانی  
(Medical Officer of Health) میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ